



## سوال

(374) دوران ملازمت پنشن جو بنک میں جمع رہتی ہے اس پر زکوٰۃ نکالتے رہنا چاہیے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہم سرکاری ملازمین کی جو رقم دوران ملازمت حکومت کے پاس جی پی فنڈ میں جمع رہتی ہے اور پنشن پانے کے بعد یکمشت ملتی ہے کیا اس پر دوران ملازمت سرکاری ملازم کو زکوٰۃ نکالتے رہنا چاہیے۔ (حاجی عبدالرحمن السلفی چترال) (۵ جنوری ۱۹۹۹ء)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جی پی فنڈ میں جمع شدہ رقم جب طے تو صرف ایک سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو کافی ہے۔ یہ مال ضمنا کے حکم میں ہے۔ مال ضمنا اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی ملک ہو۔ لیکن اس پر قبضہ نہ ہو یعنی اس میں تصرف کی قدرت نہ ہو تو خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہی فیصلہ ہے۔ ملاحظہ ہو: موطا امام مالک مع شرح زرقانی رحمہ اللہ۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 314

محدث فتویٰ